

Principles of Economics - ICom Part 1 Principles of Economics Chapter 2 Short Questions Preparation

Q1. صارف کے توازن سے کیا مراد ہے۔

Ans 1: جب صارف اپنی محدود رقم کو مختلف اشیاء پر اس طرح خرچ کرے کہ اس کو ان اشیاء سے زیادہ زیادہ افادہ حاصل ہو تو صارف توازن میں کہلاتا ہے۔

Q2. قانون مساوی افادہ مختتم کی کوئی سی چار حدود تحریر کریں۔

Ans 1: افادہ کی عددی پیمائش ممکن نہیں

Ans 2: صارفین کی لاعلمی

Ans 3: صارفین کی لاپرواہی

Ans 4: ناقابل تقسیم اشیاء

Q3. رویہ صارف سے کیا مراد ہے۔

Ans 1: صارف کے توازن حاصل کرنے کی کوشش کو رویہ صارف کا نام دیا جاتا ہے۔

Q4. ابتدائی افادہ سے کیا مراد ہے۔

Ans 1: کسی شے کی پہلی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والے افادہ کو ابتدائی افادہ کہتے ہیں مثلاً ایک شخص تین گلاس پانی پیتا ہے۔ اس کو پہلا گلاس پانی پینے سے حاصل ہونے والا افادہ ابتدائی افادہ ہوگا۔

Q5. افادہ اور فائدہ منڈی میں فرق بیان کریں۔

Ans 1: کسی شے میں انسانی خواہش کو پورا کرنے کی خوبی کو افادہ کہتے ہیں مثلاً پانی میں پیاس بجھانے کی خوبی جبکہ افادہ سے مراد فائدہ مندی نہیں ہے کیونکہ بہت سی اشیاء ہیں جو فائدہ مند نہیں ہیں مثلاً شراب، افیون، سگریٹ، یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں لیکن ان میں افادہ موجود ہے کیونکہ یہ انسانی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

Q6. مثبت افادہ سے کیا مراد ہے۔

Ans 1: جب تک کسی شے کے کل افادہ میں اضافہ ہوتا رہے اور مختتم افادہ صفر تک نہ پہنچا ہو اس کا افادہ مثبت ہوتا ہے۔

Q7. افادہ کی تعریف بیان کریں۔

Ans 1: کسی شے میں انسانی خواہش کو پورا کرنے کی خوبی، وصف یا قوت کو افادہ کہتے ہیں مثلاً پانی میں پیاس بجھانے کی خوبی، روٹی میں بھوک مٹانے کی خوبی،

بلب روشنی دیتا ہے، پین لکھنے کے کام آتا ہے

Q8. نقطہ سیری کی تعریف کریں.

Ans 1: کسی شے کے استعمال کے دوران شے کی جس اکائی پر صارف کی خواہش مکمل طور پر تسکین پا جائے یعنی سے کا مختتم افادہ صفر ہوجائے اسے نقطہ سیری کہتے ہیں

Q9. قانون تقلیل افادہ مختتم کے چار مفروضات تحریر کریں.

Ans 1: شے کی اکائی مناسب مقدار کی ہو

Ans 2: شے کا استعمال مسلسل اور لگا تار ہو

Ans 3: شے کی تمام اکائیاں ہر لحاظ سے یکساں ہوں

Ans 4: دوران استعمال صارف کی زہنی کیفیت نہ بدلے

Q10. قانون تقلیل افادہ مختتم کی عملی اہمیت کے تین نکات تحریر کیجیے.

Ans 1: صارف کی رہنمائی کرنا

Ans 2: قانون طلب کی بنیاد فراہم کرنا ہے

Ans 3: ٹیکسوں کے لحاظ میں وزیر خزانہ کی رہنمائی کرنا ہے